

## سٹی آف برامپٹن، محفوظ طریقوں سے سٹی کی سہولت گاہوں کو دوبارہ کھولنے اور سروسز کی بحالی کی تیاری میں ہے

برامپٹن، آن (26 اگست 2020) - مورخہ 9 ستمبر سے سٹی کی کاروباری سہولت گاہوں، بشمول سٹی ہال کو بالمشافہ سروسز کے استعمال لیے بذریعہ اپوائنٹمنٹ عوام الناس کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ صحت اور تحفظ کے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے تمام سہولت گاہیں بغیر اپوائنٹمنٹ تشریف لانے والے شہریوں کے لیے بند رہیں گی۔

مورخہ 16 ستمبر سے کونسل کے چیمبرز کو بھی عوام کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے جس میں پیشگی بکنگ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 50 لوگ میٹنگز میں بالمشافہ شرکت کر سکیں گے۔ کمیٹی اور سٹی کونسل کی تمام میٹنگز میں شرکت، پریزیڈنٹیشن اور تفویضات کے لیے آن لائن حصہ لینے کے انتخابات کی سہولت بدستور جاری رہے گی۔

بالمشافہ سروسز اور اپوائنٹمنٹ بکنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے تفصیلات آنے والے دنوں میں سٹی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دی جائیں گی۔ تشریف لانے پر آپ کو کیا توقع کرنی چاہیے اور عوام الناس کے تحفظ کے لیے سٹی اپنا کردار کیسے ادا کر رہا ہے، کے بارے میں تفصیلات کے لیے [brampton.ca/reopening](http://brampton.ca/reopening) ملاحظہ کریں۔

### تفریحی مراکز

سٹی آف برامپٹن کی منتخب شدہ تفریحی سہولت گاہیں صرف پیشگی اپوائنٹمنٹ کے لیے دوبارہ کھولی جا رہی ہیں۔ ان ٹور ٹولز، صحت و تندرستی کی سہولت گاہیں اور محدود حد تک عمومی پروگراموں کو لیبز ڈے (7 ستمبر) کے بعد بذریعہ پیشگی بکنگ خدمات کے لیے کھولا جائے گا۔ لیبز ڈے کے بعد کھولے جانے والے تمام پروگراموں اور سروسز کے بارے میں معلومات، بشمول نشست بک کرانے کا طریقہ کار مورخہ 1 ستمبر کو [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر دستیاب ہو گا۔

### اقتباسات

"اس مرحلے تک پہنچنے میں ہم اپنی کمیونٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی ہر قسم کی مدد کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے اپنے پبلک ہیلتھ ماہرین کی سفارشات پر عمل درآمد جاری رکھا ہوا ہے اور مرحلہ وار بحالی اور بالمشافہ خدمات کو محفوظ طریقے سے دوبارہ متعارف کرانے پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک نئی حقیقت ہے، لہذا اس دورانیے سے ایک محفوظ اور ہموار طریقے سے نکلنے کے لیے ہم سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"دوبارہ بحالی کے اپنے سروے کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے 70% رہائشی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کو سروسز آن لائن فراہم کریں۔ بلڈنگ پرمٹس اور تقریبات سے لے کر عوامی مشاورت تک ہم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی اور کاروباری اداروں کو محفوظ آن لائن انتخابات فراہم کریں۔ بتدریج اور مرحلہ وار دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوبوں میں ہم کاروبار کرنے کے لیے ایسے نئے طریقوں کی تلاش کو ترجیح دیتے رہیں گے جو محفوظ، قابل رسائی اور آسان ہوں۔"

- مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، میئر ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن

"پچھلے چند مہینوں کے دوران ہمارے عملے نے سہولت گاہوں کو ایک محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی کافی تیاری کی ہے۔ ہم نے جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات متعارف کرانے میں، صفائی کے عمل میں اضافہ کیا ہے، تمام ملازمین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک فعال اسکریننگ پر عمل کیا ہے اور گھر سے کام تک رسائی کو فروغ دیا ہے۔ یہ تمام کاوشیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ہم نے پبلک ہیلتھ کی رہنمائی پر عمل درآمد کیا ہے اور ہم نے اپنی کمیونٹی کو فراہم کی جانے والی کس بھی سروس کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)